

سوال

شادی کی غرض سے کئی ایک عورتوں کو دیکھنا

جواب

بِسْمِ اللّٰهِ

لڑکے کے لیے منگیتر لڑکی کو دیکھنا اس لیے جائز کیا گیا ہے تاکہ اسے سکون اور اطمینان حاصل ہو اور سنت پر عمل ہو سکے، جیسا کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری احادیث میں ملتا ہے۔

منگیتر کو دیکھنے کے لیے چار شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے :

پہلی شرط : نکاح کا عزم۔ دوسری : عدم خلوت

تیسری : فتنے کا ڈر نہ ہو چوتھی : مشروع مقدار سے زیادہ نہ دیکھا جائے۔ مشروع مقدار یہ ہے کہ جو لڑکی عام طور پر ظاہر رکھتی ہے یعنی اپنے بھائی والد وغیرہ کے سامنے نکار کھے۔

آپ اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے سوال نمبر (2572) کے جواب کا مطالعہ کریں۔

تو اس بنا پر لڑکی اس وقت ہی دیکھی جائے گی جب اس سے نکاح کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو، اگر تو اسے دیکھنے کے بعد وہ راضی ہو تو ٹھیک وگرنہ وہ کسی اور کی طرف منتقل ہو جائے۔۔

اسلام سوال و جواب

5503